

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن اور ریئر سن یونیورسٹی کے درمیان انوویشن زون کا تاریخی معائدہ طے پا گیا۔

برامپٹن، آن (7 جنوری 2020) – ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریئر سن انوویشن زون کے قیام کے لیے سٹی آف برامپٹن اور ریئر سن یونیورسٹی کے درمیان معائدہ طے پا گیا ہے، جو سٹی کی بعد از ثانوی تعلیم کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہے۔

رائیسن کی زیر قیادت برامپٹن انوویشن زون کو ریئر سن یونیورسٹی کے عالمی تسلیم شدہ **زون نیٹ ورک** کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس سے مربوط کیا گیا ہے۔ ان جگہوں کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ لوگ کو یہاں نئے خیالات لانے، نئے پراجیکٹس کا آغاز کرنے اور اسٹارٹ اپس کو ابتدائی مرحلوں میں موجود کمپنیوں سے شاندار کاروباروں میں تبدیل ہونے میں مدد دینے کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ نئے انوویشن زون کا مقصد برامپٹن میں کم اخراجات کے ساتھ زیادہ منافع والے کاروبار بنانا اور بڑی ممکنات کی حامل انٹرپرائیوٹریل ٹیمز کی تشکیل اور معاونت ہے۔

انوویشن زون:

- فکری رہنمائی اور ملکی اور عالمی منڈیوں تک رسائی فراہم کرے گا اور بہترین کارکردگی کی ساکھ بنائے گا۔
- نئے کاروباروں کو ترقی میں معاونت اور موجودہ صنعتوں: مثلاً تخلیقی صنعتوں، ڈیجیٹل ہاسپیٹالیٹی، انٹیلاجینٹ ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکنالوجی سے معاونت یافتہ طبی سروسز، میں جدت کو فروغ دے کر کاروباری انفرسٹرکچر کو توسیع دے گا۔
- ایک سٹی آف آپریشن کی تعمیر کر کے برامپٹن 2040 ویژن کی معاونت کرے گا
- مقامی قابل لوگوں کو ترقی فراہم کرے گا، راغب کرے گا اور برقرار رکھے گا
- حصہ لینے والے شراکت داروں کے ذریعے کاروبار، تعلیم اور حکومت کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے بااثر لوگوں کا ایک نیٹ ورک بنائے گا اور فروغ دے گا

برامپٹن جدے کے ایک طاقتور ماحول کو ممکن بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر رہا ہے۔ انوویشن زون 2020 کے اوائل میں کھلے گا اور برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں ایک نیا اضافہ ہو گا، جس میں شامل ہیں:

- راجرز سائبرسکیور کیٹالسٹ
- برامپٹن انٹرپرائیوٹری سٹریٹ (آئیڈیویشن اینڈ کو-ورکنگ اسپیس)
- ریئر سن-برامپٹن انوویشن زون (سٹارٹ اپ انکیوبیٹر)
- سٹی کے مستقبل کے سنٹر فار انوویشن کے لیے جگہ
- ایک اسکیل اپ انکیوبیٹر

### اقتباسات

"یہ برامپٹن کے لیے اور ریئر سن یونیورسٹی کے ساتھ ہماری مستقل شراکت داری کے لیے بہت ہی پرجوش لمحہ ہے۔ یہ انوویشن زون ہمیں ایک مکمل انوویشن ایکوسیستم کی طرف مزید ایک قدم قریب لے جائے گا، جو انٹرپرائیوٹریز کو ان کے سفر کے ہر مرحلے پر معاونت فراہم کرے گا۔ برامپٹن کے طلباء، انٹرپرائیوٹریز اور مستقبل کی افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام ممکن انتخابات اور شراکت داریوں پر کام کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔ ہم ریئر سن یونیورسٹی کے ساتھ ایک زبردست شراکت دار رکھتے ہیں اور ان کے باہمی تعاون کے جذبے کے لیے مشکور ہیں۔ ہم اسی طرح کے مزید کئی سالوں کے لیے پر امید ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ہم اسٹارٹ اپس اور انکیوبیشن کے حوالے سے اپنے تجربات اور مہارتوں کو برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں لانے کے لیے پر عزم ہیں اور میں اس وژن کے لیے سٹی آف برامپٹن کے عزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برامپٹن میں ریئر سن انوویشن زون خیالات کو فروغ دینے

اور انٹرنیوٹرز کو علاقے میں موجود مختلف تنظیموں کے ساتھ مربوط ہونے میں مدد دے گا، اس کے علاوہ یہ انہیں جدید معیشت میں کامیاب ہونے اور پھلنے پھولنے کے لیے ضروری تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی مہارتوں سے بھی ایس کرے گا۔

- محمد لچیمی، پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر، ریٹرسن یونیورسٹی

-30-

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

ریٹرسن یونیورسٹی جدید اور کرینر پر مبنی تعلیم کے لیے کینیڈا میں سر فہرست ہے۔ یہ شہری، ثقافتی لحاظ سے متنوع اور مشمول یونیورسٹی میں 45,300 سے زیادہ طلباء کا گھر ہے جن میں 2,600 ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء، 3,800 فیکلٹی اور عملہ اور پوری دنیا میں تقریباً 198,000 سابق طلباء شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [ryerson.ca](http://ryerson.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)